

آیت نمبر	الفاظ	مادہ Root	معنی	آیت نمبر	الفاظ	مادہ Root	معنی
183	الْيَوْمَ	و م	روزے	184	يَتَكَلَّمُونَ	ک م ل	تاکہ تم مکمل کرو
184	مَعْدُودَاتٍ	ع > >	گنتے جیسے	184	سَأَلَكَ	س ا ل	سوال کریں تجھ سے
	سَفِيرٍ	س ف ر	سفیر		أُجِيبُ	ج و ب	میں جواب دیتا ہوں
	يُطِيقُونَكَ	ط و ق	جو طاقت رکھتے ہوں اسکی		دَعَا	د ع و	پکارا
	فَذِيكَ	ف ذ ی	فدیہ ہے -		رَشَدٌ	ر ش د	وہ راہ راست پائیں گے
	تَصُومُوا	ص و م	تم روزے رکھو	187	حَلَّالٌ	ح ل ل	حلال کیا گیا
	تَطَوَّعَ	ط و ع	خوش سے کرے		رَفَعَتْ	ر ف ع	رعبت کرنا
185	رَمَنَانٍ	ر م ن	رمضان		نَسَوْنَ	ن س و	مقداری بیویوں کے
	الْقُرْآنِ	ق ر ع	قرآن		لَبَسَ	ل ب س	لباس
	الْفُرْقَانِ	ف ر ق	فرقان / فرق کرنے والی		خَوَّنَ	خ و ن	تم خیانت کرتے
	فَلْيَعْلَمُوا	ف ع ل	پس چاہیے کہ وہ روزے		بَاشَرُ	ب ا ش ر	مباشرت کرو ان سے
	فَعِدَّةٌ	ع د د	رکھے اسطے		بَغَى	ب غ ی	اور تلاش کرو
	يُرِيدُ	ر و د	پس گنتی		بَايَ	ب ا ی	سیند
	الْيُسْرِ	ی س ر	جانتا ہے -		سَوَدَ	س و د	سایہ
	الْحُسْرِ	ع س ر	آسانی	188	تَمُورًا	ت م و ر	تم پورا کرو
			تنگی		عَرَفَ	ع ر ف	استغافہ کرنے والے
					بَطُلَ	ب ط ل	باطل طریقے کے ساتھ
					دَلَّ	د ل و	تم پہنچاتے ہو
					حَكَمَ	ح ک م	حاکموں کے